

Secondary Arabic (235)

یونٹ: 1 سبق نمبر 9: السوق

سبق کا نام	زبان کی مہارتیں			سبق کا نام	سبق نمبر
	اصناف/قواعد/صنائع بدائع/اسلوب	لکھنا	پڑھنا		
سوق				سوق	9
زندگی کی عملی کام/سرگرمیاں/مہارتیں	مضمون ضمیر کا قاعدہ	متن کی تفہیم کے بعد سوالوں کے جواب لکھنا	نثر	ضمیر کو بولنا اور انہیں سننا	
بازار سے متعلق مکالمے کے انداز میں معلومات					

سبق کا خلاصہ:

أراد الوالد الذهاب إلى السوق مساء يوم السبت - جلس الوالد مع أسرته في السيارة وتحركت السيارة وأوقفها الوالد في موقف السيارات ودخل الجميع دكاناً - الأم طلبت من البائع قميصاً جيداً لابنتها - فعرض البائع القميص الأسود - كما طلبت منه قميصاً أحمر لابنتها وأخذت القميصين و دفعت ثمنهما وخرج الجميع من هذا الدكان - وتوجهت الأسرة بعده إلى محل الخضراوات للخضراوات الطازجة - واشترت الأم الخيار والبصل والطماطم والبطاطس والجزر والبامية والليمون - وذهبت الأسرة إلى الفاكهاني واشترت الموز والبرتقال والتفاح والرمان - وأخيراً ذهب الوالدان إلى محل العصير - وبعده رجعت الأسرة إلى بيتها مسرورة -

نئے الفاظ:

يوم السبت	سنيچر	أسرة	خاندان
موقف السيارات	كارپاركنگ	نوع	قسم
خُصرى	سبزی فروش	خيار	كھيرا
بامية	بھنڈی	مقهى	قہوہ خانہ

خاص باتیں:

- بازار میں خرید و فروخت کا طریقہ مکالمہ کی شکل میں بتایا گیا ہے۔
- کپڑوں کے رنگ اور پھلوں اور سبزیوں کے عربی نام بھی اس سبق میں بتائے گئے ہیں۔
- ضمیر تین شکلوں میں استعمال میں آتے ہیں ضمیر متصل، ضمیر منفصل اور ضمیر مستتر۔

سمجھنے کی بات:

- ضمیر مستتر اس لیے مستتر کہلاتا ہے کیوں کہ وہ فعل کے اندر چھپا رہتا ہے ہر فعل میں ایک ضمیر مستتر ہوتا ہے۔ جیسے فَعَلَ (اس نے کیا) کے اندر 'هُوَ' مستتر ہے۔

غور کرنے کی باتیں:

- سبق میں دیے گئے مکالمے کا استعمال عام میں زندگی میں ہو سکتا ہے۔
- اس میں موجود مشکل الفاظ اور پھلوں اور سبزیوں کے نام کو بار بار دہرا کر یاد کیا جانا چاہیے۔
- مختلف اقسام کے ضمائر کو اچھی طرح سمجھ کر ان کا استعمال جملوں میں کرنا چاہیے تاکہ انہیں اچھی طرح سمجھا جاسکے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:

1. متن پر مبنی سوال:
 - صحیح جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:
 - (الف) أوقف الوالد سيارته في موقف الحافلات
 - (ب) جلست الأم على المقعد الأمامي
 - (ج) اشتريت البنيت القميص الأبيض
 - (د) شرب الولدان القهوة
2. مختصر ترین جواب والا سوال:
 - من يبيع الفواكه في السوق؟
3. مختصر جواب والا سوال:
 - كيف ذهبت الأسرة إلى السوق؟
4. طویل جواب والا سوال:
 - مختلف قسم کے ضمائر کو مثالوں کے ساتھ سمجھائیں؟